

محترم والدین/سرپرست:

YRDSB 2020-2021 طالب علم اور فیملی کے سروے

طالب علم اور فیملی کی رائے ہمارے لیے اہم ہے۔ یارک ریجن ڈسٹرکٹ اسکول بورڈ طلبہ (گریڈ 7-12) اور فیملیز (گریڈ K-12) سے فیڈ بیک اکٹھا کرنے کے لیے دو سروے کا اہتمام کرے گا تاکہ اس تعلیمی سال کے دوران آموزش کے ان کے تجربوں کو سمجھا جائے۔

سروے 26 مئی اور 18 جون 2021 کے درمیان آن لائن دستیاب ہوں گے۔ گریڈز 7-12 کے تمام طلبہ کو طالب علم کے سروے میں شرکت کرنے کے لیے مدعو کیا جائے گا۔ گریڈ K-12 کے طلبہ کی فیملیز کو فیملی کا سروے مکمل کرنے کے لیے مدعو کیا جائے گا۔ سروے مکمل کرنے میں لگ بھگ 15 سے 20 منٹ لگیں گے۔

سروے میں درج ذیل سے متعلق سوالات شامل ہوں گے: فاصلاتی آموزش؛ ٹیکنالوجی اور آموزش ٹولز؛ طالب علم کی مشغولیت؛ حفاظت، امتیازی سلوک اور ایذا رسانی؛ ذہنی صحت اور بہبود؛ انصاف اور جامع آموزش ماحول؛ اور فیملی/اسکول کی مواصلت۔ ہم اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ طلبہ کے گروپوں میں آموزش تجربات کس طرح مختلف ہو سکتے ہیں، اور تمام طلبہ کے لیے ایک محفوظ اور جامع اسکولی آب و ہوا کو فروغ دینے کے لیے طلبہ کی شناختوں (جیسے، نسل اور صنف) کے بارے میں بھی سوالات پوچھتے ہیں۔

فیملی کا سروے آن لائن انگریزی، عربی، آسان چینی، روایتی چینی، فارسی، گجراتی، عبرانی، کوریائی، پنجابی، روسی، تمل، ترکی، اردو اور ویتنامی زبان میں دستیاب ہوگا۔ مختلف استثنائی حالات کے حامل شرکاء کو سہولت بہم پہنچانے کے لیے، فیملی اور طالب کے سروے دونوں ہی کو آواز شناسی کا سافٹ ویئر جیسے Google Read & Write استعمال کر کے مکمل کیا جا سکتا ہے۔ آپ کے حوالے کے لیے، سروے کی ایک نقل نیز فیملی کے سروے کے ترجمہ شدہ ورژن اور یہ ای میل [YRDSB کی ویب سائٹ](mailto:YRDSB@yorkregion.ca) پر دستیاب ہیں۔

سروے گمنام اور رازدارانہ ہیں۔ کوئی بھی ایسی معلومات اکٹھی نہیں کی جائیں گی جن میں افراد کی شناخت ہونے کا احتمال ہو۔ سروے رضاکارانہ ہیں اور جواب دہندگان جن سوالوں کا جواب نہیں دینا چاہتے ہوں انہیں چھوڑ دینے کا ان کو اختیار ہوگا۔

ان سروے میں فراہم کردہ معلومات صرف YRDSB کے ریسرچ اینڈ اسپیسمنٹ سروسز ڈپارٹمنٹ (Research and Assessment Services Department) کے عمل کے ذریعے قابل رسائی ہوں گی۔ فریق ثالث کی ڈیٹا کی جمع آوری کا جو ٹول ہم استعمال کرتے ہیں اسے بھی جوابات تک رسائی حاصل ہوگی آلا یہ کہ ریسرچ اینڈ اسپیسمنٹ سروسز سروے بند ہو جانے کے بعد انہیں ہٹا دے۔ ڈیٹا کے اسٹوریج اور برقراریت میں [بورڈ کی پالیسی اور طریقہ کار 160.0# ریکارڈوں اور معلومات کا نظم و نسق](mailto:160.0@yorkregion.ca) پر عمل کیا جائے گا۔

سروے کے نتائج طالب علم کی حصولیابی اور بہبود میں تعاون کرنے، اسکول کی پیشرفت پر نگاہ رکھنے، مزید منصفانہ اور جامع اسکولی ماحول تخلیق کرنے اور اسکول اور بورڈ کی منصوبہ بندی سے مطلع کرنے کے لیے استعمال کیے جائیں گے۔ ٹرسٹیز، اسکولوں، بورڈ کے محکموں، او عوام کے ساتھ موسم خزاں، 2021 میں نتائج شیئر کیے جائیں گے۔

گریڈ 7-12 کے طلبہ کو ایک ای میل موصول ہوگا جو انہیں بتائے گا کہ ایک سروے دستیاب ہوگا۔ سروے کھل جانے پر، طلبہ کو ان کے GAPPS اسکول اکاؤنٹ کے ذریعے طالب علم کا سروے مکمل کرنے کا دعوت نامہ موصول ہوگا۔ والدین/سرپرستوں کو ان کے بچے کے اسکول میں فائل میں موجود ای میل پتے کے ذریعہ فیملی کا سروے مکمل کرنے کا دعوت نامہ موصول ہوگا۔

اگر آپ نہیں چاہتے ہیں کہ گریڈز 7-12 کے آپ کے بچے) بچوں) کو طالب علم کا سروے موصول ہو تو، براہ کرم research.services@yrdsb.ca پر زیادہ سے زیادہ 24 مئی 2021 تک رابطہ کریں۔

اس اہم پیش قدمی سے طلبہ اور فیملیز کی متنوع ضروریات پوری کرتے رہنے کے لیے ان کی باتیں سن کر ساتھ مل کر کام کرتے ہوئے ہمیں اپنے وزن کو آگے بڑھانے میں مدد ملے گی۔ آپ کے تعاون کا شکریہ۔